

alherin wannan rana: budinta, da nasararta, da haskenta, da albarkarta, da shiriyarta. Kuma ina neman tsarinka daga sharrin abin da ke cikinta, da abin da ke bayanta”.

Da Yamma Kuma Ya ce:

أَسْتَبَا وَأَسْتَبَا وَاسْتَبَا لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ... ”

“Mun shiga maraice, kuma mulki ma ya shiga maraice yana mai tabbata ga Allah ...”.

Da Safe:

أَللَّهُمَّ بِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ... ”

“Ya Allah! Da ikonKa ne muka wayi gari, kuma da ikonKa ne muka shiga maraice, kuma da ikonKa ne muke rayuwa, kuma da ikonka ne muke mutuwa, kuma izuwa gare Ka ne matattara take”.

Da Yamma:

أَللَّهُمَّ بِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ وَبِنِ امْتِحَاتِكُمْ... ”

“Ya Allah! Da ikonKa ne muka shiga maraice, kuma da ikonKa ne muka wayi gari, kuma da ikonka ne muke rayuwa, kuma da ikonka ne muke mutuwa, kuma izuwa gare Ka ne makoma take”.

Sau 3 Idan Ya Sauka Wani Masauki da Yamma: (babu abin da zai cutar da shi har ya bar wannan masaukin)

أَللَّهُمَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَنَاتِ مِنْ حَرْفٍ مَا خَلَقَ... ”

“Ina neman tsari da Kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da Ya halitta”.

ZIKIRAN BAYAN SALLOLI NA FARILLA

“Ina neman gafarar Allah” (sau uku) اِسْتَقْبِرُ اَللّٰهُ

أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمَنْكَ السَّلَامُ، تَارَحْتَنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَكَانَ الْخَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَللَّهُمَّ لَا تَسْجِعْ لَنَا عَقِيْبَتٌ وَلَا تُعْطِيْ لَنَا تَفْعُلَ وَلَا تَقْبَعْ ذَا الْخَيْدِ مِنْكَ الْيَدُ... ”

“Ya Allah! Kai ne Aminci, kuma daga gare Ka aminci ya ke. Alherinka ya yawaita, ya Ma'abocin girma da karamci. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma yabo na Sane (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai. Ya Allah! Babu mai hana abin da Ka bayar, kuma babu mai bayar da abin da Ka hana, kuma wadata ba ta amfanar da mai wadata daga gare Ka”.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَكَانَ الْخَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَكَ التَّعَبَةُ وَكَانَ الْفَضْلُ وَكَانَ الْبَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَكَ الْعَلَمِينَ وَهُوَ سَمَرَةُ الْكَافِرُونَ... ”

“Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma yabo naSa ne (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai. Kuma babu dabara babu karfi sai da Allah. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah; kuma ba ma bautawa kowa sai Shi. Ni'ima tasa ce, kuma falala tasa ce, kuma kyakkyawan yabo nasa ne. Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, muna masu tsarkake bauta (daga shirka) a gare Shi, ko da kafirai sun Ei”.

“Tsarki ya tabbata ga Allah” (sau 33) اِسْتَحْبَانَ اَللّٰهُ

“Godiya ta tabbata ga Allah” (sau 33) اَلْحَمْدُ لِلّٰهُ

“Allahu Akabar” (sau 33) اَللّٰهُ اَكْبَرُ

Cikon na dari kuwa:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَكَانَ الْخَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ... ”

“Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma yabo nasa ne (Shi kadai), kuma Shi ne Mai iko a kan komai”.

“Wanda duk ya yi wannan zikirin bayan kowace sallah za a gafarta masa kurakuransa koda kuwa kwatankwacin kumfar kagi ne”.

Karanta Ayatul Kursiyyi:

اَللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ... ﴿سورة البقرة ٢٥٥﴾

“Wanda ya fadi wannan bayan kowace salla to babu abin da zai hana shi shiga Aljanna sai dai mutuwa”.

Sau daya bayan kowace Salla, Sai dai sallar Asuba da ta Magariba Za a karanta sau uku:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ...﴾ ﴿قُلْ اَللّٰهُ بَرٌّ اَلْقَلْبُ...﴾ ﴿قُلْ اَللّٰهُ بَرٌّ اَلْقَلْبُ...﴾

Bayan Sallar Asuba da ta Magariba kuma zai karanta wannan sau goma:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ وَكَانَ الْخَيْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ... ”

“Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, Shi kadai, babu abokin tarayya a gare Shi. Mulki nasa ne (Shi kadai), kuma yabo nasa ne (Shi kadai), Yana rayawa kuma Yana kashewa, kuma Shi ne Mai iko a kan komai”.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Allah Yana cewa: ﴿فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْا﴾ سورة البقرة ١٥٢
 “To ku tuna Ni zan tuna ku, kuma ku gode maNi kada ku kafirree manNi”
 KAUTA
ZIKIRIN MUSULMI NA YAU DA KULLUN
 اَحْكَامُ الصَّلَاةِ الْيَوْمِيَّةِ وَاللَّيْلِيَّةِ الصَّوْمِيَّةِ

ZIKIRIN SAFE DA YAMMA

Sau daya da safe da yamma da kuma lokacin barci don ya zama tsari daga shedaran:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا تَرَىٰ أَبْصَارُهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ سورة البقرة: 255

“Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai Shi, Rayayye, Mai tsayuwa da kanSa, Gyangyadi ba ya kama Shi, wala barci. Abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kasa nasa ne. Babu mai yin ceto a wurinsa sai da izininsa. Yana sane da abin da yake gabansu (wato al'amarin duniya) da abin da yake bayansu (na al'amarin lahira). Ba su sanin wani abu daga iliminSa, sai abin da Ya so. Kursiyyunsa (wato gadonsa) ya yalwaci sammai da kasa, kuma kiyaye su (sammai da kasa) ba ya yi masa nauyi. Shi ne kuma Madaukaki, Mai girma”.

Kuma ka karanta surori masu zuwa kowace sau uku safe da yamma:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

Da suanan Allah Mai rahama Mai jin kai
“Ka ce Allah Shi ne daya. Allah wanda ake nufi da bukata. Bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Kuma babu

wani wanda yake tsara gare Shi”.

﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

Da suanan Allah Mai rahama Mai jin kai
“Ka ce ina neman tsari da Ubangijin Safiya. Daga sharrin abin da Ya halitta. Da kuma sharrin dare idan ya rufe da duhunsu. Da sharrin mata musu tofe-tofe a cikin kulle-kulle. Da kuma sharrin mai hassada idan ya yi hassadar”.

﴿قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْاَسْمَاءِ، بِمَلِكِ الْاَسْمَاءِ، اِلَهِي الْاَسْمَاءِ، مِنْ شَرِّ الْاَسْمَاءِ الْاَسْمَاءِ، الَّذِي يُؤْتِسُوْنَ فِي صُلُوْبِ الْاَسْمَاءِ، مِنَ الْجَنَّةِ وَالْاَسْمَاءِ﴾

Da suanan Allah Mai rahama Mai jin kai
“Ka ce ina neman tsari da Ubangijin mutane. Mai mulkin mutane. Abin bautawar mutane. Daga sharrin mai sanya waswasi mai buya. Wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane. Daga Aljannu da mutane”.

Wanda ya fadi wannan addu'ar yana mai sakankancewa da ita har yamma ta yi, sannan ya mutu a wannan daren na shi ta zai shiga Aljanna. Hakan nan ma idan ya yi irin haka da safe:

﴿اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَئِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنْتَ عِنْدَكَ وَاَنْتَ اَعْلَىٰ عِنْدَكَ وَرَعْبِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ اَجْرًا لَكَ بِعَيْنِكَ عَلَيَّ وَاجْرًا لَكَ بِذُلِّيْ فَاعْفِرْ

لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَقْبَلُ الْكُتُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

“Ya Allah! Kai ne Ubangijina; babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Ka halicce ni, kuma ni bawanKa ne; kuma ina kan al'awarin da na yi maka (na kadaitaka da bauta) da kuma al'awarin da Ka yi mini (na shigar da wanda bai yi shirka da Kai ba gidan aljanna) gwargwadon ikona. Ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata. Ina tabbatar da ni'imarka gare ni, kuma ina tabbatar da zunubi na; Ka gafarta mini, domin ba wanda yake gafarta zunubai sai Kai”.

Safe da Yamma:

﴿اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ الْعَلْبُ وَالشَّهَادَةُ فَاعِزَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَتَلِيْكُهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَهَوْنِهِ، وَاَنْ اُقْرَبَ عَلَيَّ نَفْسِيْ سَوَاءً، اَوْ اَجْرَةً اِلَىٰ مُسْلِمٍ﴾

“Ya Allah! Masarin abin da ke fake da na sarari! Mai kagen halittar sammai da kassai! Ubangijin komai, kuma Mamallakinsa! Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Kai. Ina neman tsarinka daga sharrin raina, da kuma sharrin Shaidan da shirkarsa, da in tsuwurwurtawa kaina wani abu mummuna, ko in jawo shi ga wani musulmi”

Sau 3 Safe da Yamma:

﴿وَحَمِيَّتِ بِاللّٰهِ رَبِّ، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِشَحْمِدِ ﷺ نَبِيًّا﴾
“Na yarda da Allah Ubangiji, da musulunci addini, da Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, Annabi”.

Sau 3 Safe da Yamma:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَعْزُبُ عَنْ سَمِيْعٍ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ﴾
“Da Sunan Allah, Wanda da Sunansa wani abu a sama ko a kasa ba ya cutarwa. Shi ne Mai ji, Masani”.

Safe da Yamma da Kuma Gabanin Barci:

﴿اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِيْ وَدِيْنِيْ، وَالْعَلِيَّ وَالْعَلِيَّ، اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ غَوْزِيْ، وَاَمِنْ رَوْعِيْ، اَللّٰهُمَّ احْطِمْ لِيْ مِنْ بَيْنِيْ وَمَنْ خَلْفِيْ وَعَنْ نَبِيِيْ وَعَنْ هَيْبِيْ وَعَنْ هَيْبَالِيْ وَمِنْ قُوَّتِيْ وَاَعُوذُ بِعَقْلِيْكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ لَحْيِيْ﴾

“Ya Allah! Ina rokonka afuwa da aminci daga dukkan mummuna a duniya da lahira. Ya Allah! Ina rokonka afuwa da aminci daga dukkan mummuna a addinina, da duniyata, da iyalina, da dukiyata. Ya Allah! Ka yi mini sutura, Ka kwantar da hankalina. Ya Allah! Ka kiyaye ni ta gabana, da ta bayana, da ta damana, da ta haguna, da ta sama da ni, kuma ina neman tsari da Girmanka da a kiske kasa da ni”.

Da Safe Kuma Ya ce:

﴿اَسْتَحْتَا وَاسْتَجَّ الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهٗ الْمَلِكُ وَهٗ وَالْحَمْدُ وَهُوَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ اَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَالْخَيْرَ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَسُوْءِ الْكَبْرِ، رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي الدُّرِّ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ﴾

“Mun wayi gari, kuma mulki ma ya wayi gari yana mai tabbata ga Allah, Ubangijin talikai. Ya Allah! Ina rokonka